



سوال

پھوپھی کے بیٹے سے شادی کرنے کی وصیت پوری کرنا

جواب

الحمد للہ

آپ کے لیے مذکورہ وصیت پر عمل کرنا لازم نہیں؛ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

"کنواری کا نکاح اس سے اجازت لیے بغیر نہ کیا جائے"

اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں:

"کنواری سے اس کا والد اجازت لے اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے"

ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استعارہ کریں، اور اپنے رشتہ دار وغیرہ میں سے جس پر مطمئن ہیں اس کے ساتھ اس شخص کے متعلق مشورہ بھی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر قسم کی بھلائی میں آسانی پیدا فرمائے گا" انتہی۔